

بِسْمِ الْعَزِيزِ / ۱۴۳۱/۸/۱

کیا ہی مبارک ہے وہ زبان، جو رب کریم کے ذکر و تسبیح میں مشغول رہے، کیا ہی خوش نصیب ہے وہ بندہ جو صبح و شام مولائے کریم کی حمد و ثناء بیان کرے اور کیا ہی سعادت مند ہے وہ شخص جو اپنے خالق و مالک کو یاد کرتا رہے۔ تو پھر آئیے غفلت و سستی کو دور کریں اور رحمت الہی، مغفرت خداوندی کے یقین کے ساتھ ان اذکار و ادعیہ کو ضرور پڑھیں اور مولائے کریم کی رضاء و خوشنودی حاصل کریں۔ دعاؤں پر مشتمل اس رسالہ میں صرف چند دعائیں ہی لکھی گئی ہیں تاکہ کم از کم ان کو پابندی سے پڑھیں اور اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ لیکن ہاں شریعت کی پابندی، سنتوں کے اہتمام کو لازم سمجھیں اور گناہوں سے اجتناب کریں۔ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ جب ان دعاؤں کی اس قدر فضیلت ہے تو پھر فرائض و واجبات کی کیا ضرورت؟ کیوں کہ فرائض وغیرہ پر عمل کیے بغیر چارہ ہی نہیں۔

مفتی انعام الحق نقشبندی

حسن پور برہروا، بیتا مڑھی، بہار

محنت کم ثواب زیادہ

﴿ مرتب ﴾

(مفتی) محمد انعام الحق (نقشبندی)



دارالعلوم ہدایت الاسلام

عالی پور، بلی مور، جیکھلی، نوساری، گجرات (پن: ۳۹۶۴۰۹)

(موبائل: 9913907800)

اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

صرف ۱۰ سیکنڈ کے عمل پر نبی ﷺ جنت میں لے جائیں!

(۲) حضرت منذر رضی اللہ عنہ ایک افریقی صحابی ہیں، نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کو یہ دعائیں مرتبہ پڑھے تو میں (رسول اللہ ﷺ) ہاتھ پکڑ کر اس کو جنت میں داخل کرنے کا ذمہ دار ہوں۔

صرف دس سیکنڈ میں پڑھ کر اس سعادت کے مستحق بن جائیے۔

﴿رَضِيْتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) نَبِيًّا﴾

(مجمع الزوائد: ۱۷۰۰۵، طبرانی ص ۳۵۵، ج ۲۰، ۸۳۸)

☆ گناہوں سے بچنے، خوشنودی رب حاصل کر لیجئے۔



اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

صرف ۱۵ سیکنڈ میں فجر سے اشراق تک کا ثواب!

(۱) ایک دفعہ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا نماز فجر سے لے کر اشراق تک مصلیٰ پر بیٹھی تھیں، جبکہ نبی اکرم ﷺ فجر کے بعد باہر تشریف لے گئے، واپس آنے کے بعد فرمایا: جس نے یہ کلمہ تین مرتبہ پڑھ لیا تو فجر سے اشراق کے درمیان ذکر وغیرہ کے ثواب کے برابر ہو جائے گا۔ لہذا اس نعمت سے محروم نہ رہ جائیں، اسلئے پابندی سے ضرور پڑھیں۔

﴿سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمَدَادَ كَلِمَاتِهِ﴾

(ابوداؤد: ۱۵۰۳، مسلم: ۴۹۰۵، ۲۷۲۶، ۷۰۸۸، الدعوات الکبیر للبیہقی: ۱۲۷)

اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

صرف ایک منٹ میں شہادت کا درجہ!

(۳) شہادت کا مرتبہ کیا ہی بلند مرتبہ ہے! ہر کسی کو یہ مرتبہ نہیں ملتا، نصیب والے ہی پاتے ہیں۔ آج سے عہد کریں کہ شہادت کا درجہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔
نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص صبح کے وقت ۲۵ مرتبہ یہ دعا پڑھے اگر اسی دن اس کی موت آجائے تو شہادت کا مرتبہ پائے گا۔
اس کے پڑھنے میں آپ کے صرف ایک منٹ لگیں گے، مگر شہادت کا مرتبہ مل جائے گا۔

﴿اللَّهُمَّ بَارِكْ لِي فِي الْمَوْتِ وَفِي مَا بَعْدَ الْمَوْتِ﴾

(مجمع الزوائد: ۹۵۵ ص ۳۹۰)

☆ موت کی یاد سے پتھر دل موم بنا لیجئے۔

اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

۱۰ سیکنڈ کا عمل، ۴۰ مرض سے نجات!

(۴) کراہتے ہوئے مریضوں کو دیکھئے کہ صحت کیلئے کس طرح صبح و شام ترستے ہیں، خدا نے ہم پر کرم فرمایا کہ اپنی حفاظت میں رکھا، مزید حفاظت نصیب ہو اس کیلئے اگر یہ دعا دس سیکنڈ میں فجر بعد تین بار پڑھ لیں تو چار مرض سے نجات میں رہیں گے۔
(۱) پاگل پن (۲) کوڑھ پن (۳) اندھے پن (۴) فالج

﴿سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾

(عمل الیوم واللیلۃ ابن السنی: ۱۳۳، ۱۳۲، ۱۳۱، ۱۳۰، ۱۲۹، ۱۲۸، ۱۲۷، ۱۲۶، ۱۲۵، ۱۲۴، ۱۲۳، ۱۲۲، ۱۲۱، ۱۲۰، ۱۱۹، ۱۱۸، ۱۱۷، ۱۱۶، ۱۱۵، ۱۱۴، ۱۱۳، ۱۱۲، ۱۱۱، ۱۱۰، ۱۰۹، ۱۰۸، ۱۰۷، ۱۰۶، ۱۰۵، ۱۰۴، ۱۰۳، ۱۰۲، ۱۰۱، ۱۰۰، ۹۹، ۹۸، ۹۷، ۹۶، ۹۵، ۹۴، ۹۳، ۹۲، ۹۱، ۹۰، ۸۹، ۸۸، ۸۷، ۸۶، ۸۵، ۸۴، ۸۳، ۸۲، ۸۱، ۸۰، ۷۹، ۷۸، ۷۷، ۷۶، ۷۵، ۷۴، ۷۳، ۷۲، ۷۱، ۷۰، ۶۹، ۶۸، ۶۷، ۶۶، ۶۵، ۶۴، ۶۳، ۶۲، ۶۱، ۶۰، ۵۹، ۵۸، ۵۷، ۵۶، ۵۵، ۵۴، ۵۳، ۵۲، ۵۱، ۵۰، ۴۹، ۴۸، ۴۷، ۴۶، ۴۵، ۴۴، ۴۳، ۴۲، ۴۱، ۴۰، ۳۹، ۳۸، ۳۷، ۳۶، ۳۵، ۳۴، ۳۳، ۳۲، ۳۱، ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱)



☆ آفتوں سے بچنے کی مزید دعائیں بھی پڑھا کیجئے۔

اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

صرف ۷ سیکنڈ میں جہنم سے نجات کا پروانہ!

(۵) اللہ کی رحمت و مغفرت کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ ہم کمزور بندوں کو کن کن بہانوں سے نوازنا چاہتے ہیں اور جہنم کے عذاب سے نجات دینا چاہتے ہیں۔

حضرت ابو حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم مغرب اور فجر کی نماز کے بعد سات مرتبہ یہ دعا پڑھ لو اور اگر اسی دن موت آگئی تو جہنم سے پوری نجات مل جائے گی۔

﴿اللَّهُمَّ اجْرِنِي مِنَ النَّارِ﴾

(ابوداؤد: ۵۰۸۱، ۵۰۸۲، ۵۰۸۳، ۵۰۸۴، ۵۰۸۵، ۵۰۸۶، ۵۰۸۷، ۵۰۸۸، ۵۰۸۹، ۵۰۹۰، ۵۰۹۱، ۵۰۹۲، ۵۰۹۳، ۵۰۹۴، ۵۰۹۵، ۵۰۹۶، ۵۰۹۷، ۵۰۹۸، ۵۰۹۹، ۵۱۰۰، ۵۱۰۱، ۵۱۰۲، ۵۱۰۳، ۵۱۰۴، ۵۱۰۵، ۵۱۰۶، ۵۱۰۷، ۵۱۰۸، ۵۱۰۹، ۵۱۱۰، ۵۱۱۱، ۵۱۱۲، ۵۱۱۳، ۵۱۱۴، ۵۱۱۵، ۵۱۱۶، ۵۱۱۷، ۵۱۱۸، ۵۱۱۹، ۵۱۲۰، ۵۱۲۱، ۵۱۲۲، ۵۱۲۳، ۵۱۲۴، ۵۱۲۵، ۵۱۲۶، ۵۱۲۷، ۵۱۲۸، ۵۱۲۹، ۵۱۳۰، ۵۱۳۱، ۵۱۳۲، ۵۱۳۳، ۵۱۳۴، ۵۱۳۵، ۵۱۳۶، ۵۱۳۷، ۵۱۳۸، ۵۱۳۹، ۵۱۴۰، ۵۱۴۱، ۵۱۴۲، ۵۱۴۳، ۵۱۴۴، ۵۱۴۵، ۵۱۴۶، ۵۱۴۷، ۵۱۴۸، ۵۱۴۹، ۵۱۵۰، ۵۱۵۱، ۵۱۵۲، ۵۱۵۳، ۵۱۵۴، ۵۱۵۵، ۵۱۵۶، ۵۱۵۷، ۵۱۵۸، ۵۱۵۹، ۵۱۶۰، ۵۱۶۱، ۵۱۶۲، ۵۱۶۳، ۵۱۶۴، ۵۱۶۵، ۵۱۶۶، ۵۱۶۷، ۵۱۶۸، ۵۱۶۹، ۵۱۷۰، ۵۱۷۱، ۵۱۷۲، ۵۱۷۳، ۵۱۷۴، ۵۱۷۵، ۵۱۷۶، ۵۱۷۷، ۵۱۷۸، ۵۱۷۹، ۵۱۸۰، ۵۱۸۱، ۵۱۸۲، ۵۱۸۳، ۵۱۸۴، ۵۱۸۵، ۵۱۸۶، ۵۱۸۷، ۵۱۸۸، ۵۱۸۹، ۵۱۹۰، ۵۱۹۱، ۵۱۹۲، ۵۱۹۳، ۵۱۹۴، ۵۱۹۵، ۵۱۹۶، ۵۱۹۷، ۵۱۹۸، ۵۱۹۹، ۵۲۰۰، ۵۲۰۱، ۵۲۰۲، ۵۲۰۳، ۵۲۰۴، ۵۲۰۵، ۵۲۰۶، ۵۲۰۷، ۵۲۰۸، ۵۲۰۹، ۵۲۱۰، ۵۲۱۱، ۵۲۱۲، ۵۲۱۳، ۵۲۱۴، ۵۲۱۵، ۵۲۱۶، ۵۲۱۷، ۵۲۱۸، ۵۲۱۹، ۵۲۲۰، ۵۲۲۱، ۵۲۲۲، ۵۲۲۳، ۵۲۲۴، ۵۲۲۵، ۵۲۲۶، ۵۲۲۷، ۵۲۲۸، ۵۲۲۹، ۵۲۳۰، ۵۲۳۱، ۵۲۳۲، ۵۲۳۳، ۵۲۳۴، ۵۲۳۵، ۵۲۳۶، ۵۲۳۷، ۵۲۳۸، ۵۲۳۹، ۵۲۴۰، ۵۲۴۱، ۵۲۴۲، ۵۲۴۳، ۵۲۴۴، ۵۲۴۵، ۵۲۴۶، ۵۲۴۷، ۵۲۴۸، ۵۲۴۹، ۵۲۵۰، ۵۲۵۱، ۵۲۵۲، ۵۲۵۳، ۵۲۵۴، ۵۲۵۵، ۵۲۵۶، ۵۲۵۷، ۵۲۵۸، ۵۲۵۹، ۵۲۶۰، ۵۲۶۱، ۵۲۶۲، ۵۲۶۳، ۵۲۶۴، ۵۲۶۵، ۵۲۶۶، ۵۲۶۷، ۵۲۶۸، ۵۲۶۹، ۵۲۷۰، ۵۲۷۱، ۵۲۷۲، ۵۲۷۳، ۵۲۷۴، ۵۲۷۵، ۵۲۷۶، ۵۲۷۷، ۵۲۷۸، ۵۲۷۹، ۵۲۸۰، ۵۲۸۱، ۵۲۸۲، ۵۲۸۳، ۵۲۸۴، ۵۲۸۵، ۵۲۸۶، ۵۲۸۷، ۵۲۸۸، ۵۲۸۹، ۵۲۹۰، ۵۲۹۱، ۵۲۹۲، ۵۲۹۳، ۵۲۹۴، ۵۲۹۵، ۵۲۹۶، ۵۲۹۷، ۵۲۹۸، ۵۲۹۹، ۵۳۰۰، ۵۳۰۱، ۵۳۰۲، ۵۳۰۳، ۵۳۰۴، ۵۳۰۵، ۵۳۰۶، ۵۳۰۷، ۵۳۰۸، ۵۳۰۹، ۵۳۱۰، ۵۳۱۱، ۵۳۱۲، ۵۳۱۳، ۵۳۱۴، ۵۳۱۵، ۵۳۱۶، ۵۳۱۷، ۵۳۱۸، ۵۳۱۹، ۵۳۲۰، ۵۳۲۱، ۵۳۲۲، ۵۳۲۳، ۵۳۲۴، ۵۳۲۵، ۵۳۲۶، ۵۳۲۷، ۵۳۲۸، ۵۳۲۹، ۵۳۳۰، ۵۳۳۱، ۵۳۳۲، ۵۳۳۳، ۵۳۳۴، ۵۳۳۵، ۵۳۳۶، ۵۳۳۷، ۵۳۳۸، ۵۳۳۹، ۵۳۴۰، ۵۳۴۱، ۵۳۴۲، ۵۳۴۳، ۵۳۴۴، ۵۳۴۵، ۵۳۴۶، ۵۳۴۷، ۵۳۴۸، ۵۳۴۹، ۵۳۵۰، ۵۳۵۱، ۵۳۵۲، ۵۳۵۳، ۵۳۵۴، ۵۳۵۵، ۵۳۵۶، ۵۳۵۷، ۵۳۵۸، ۵۳۵۹، ۵۳۶۰، ۵۳۶۱، ۵۳۶۲، ۵۳۶۳، ۵۳۶۴، ۵۳۶۵، ۵۳۶۶، ۵۳۶۷، ۵۳۶۸، ۵۳۶۹، ۵۳۷۰، ۵۳۷۱، ۵۳۷۲، ۵۳۷۳، ۵۳۷۴، ۵۳۷۵، ۵۳۷۶، ۵۳۷۷، ۵۳۷۸، ۵۳۷۹، ۵۳۸۰، ۵۳۸۱، ۵۳۸۲، ۵۳۸۳، ۵۳۸۴، ۵۳۸۵، ۵۳۸۶، ۵۳۸۷، ۵۳۸۸، ۵۳۸۹، ۵۳۹۰، ۵۳۹۱، ۵۳۹۲، ۵۳۹۳، ۵۳۹۴، ۵۳۹۵، ۵۳۹۶، ۵۳۹۷، ۵۳۹۸، ۵۳۹۹، ۵۴۰۰، ۵۴۰۱، ۵۴۰۲، ۵۴۰۳، ۵۴۰۴، ۵۴۰۵، ۵۴۰۶، ۵۴۰۷، ۵۴۰۸، ۵۴۰۹، ۵۴۱۰، ۵۴۱۱، ۵۴۱۲، ۵۴۱۳، ۵۴۱۴، ۵۴۱۵، ۵۴۱۶، ۵۴۱۷، ۵۴۱۸، ۵۴۱۹، ۵۴۲۰، ۵۴۲۱، ۵۴۲۲، ۵۴۲۳، ۵۴۲۴، ۵۴۲۵، ۵۴۲۶، ۵۴۲۷، ۵۴۲۸، ۵۴۲۹، ۵۴۳۰، ۵۴۳۱، ۵۴۳۲، ۵۴۳۳، ۵۴۳۴، ۵۴۳۵، ۵۴۳۶، ۵۴۳۷، ۵۴۳۸، ۵۴۳۹، ۵۴۴۰، ۵۴۴۱، ۵۴۴۲، ۵۴۴۳، ۵۴۴۴، ۵۴۴۵، ۵۴۴۶، ۵۴۴۷، ۵۴۴۸، ۵۴۴۹، ۵۴۵۰، ۵۴۵۱، ۵۴۵۲، ۵۴۵۳، ۵۴۵۴، ۵۴۵۵، ۵۴۵۶، ۵۴۵۷، ۵۴۵۸، ۵۴۵۹، ۵۴۶۰، ۵۴۶۱، ۵۴۶۲، ۵۴۶۳، ۵۴۶۴، ۵۴۶۵، ۵۴۶۶، ۵۴۶۷، ۵۴۶۸، ۵۴۶۹، ۵۴۷۰، ۵۴۷۱، ۵۴۷۲، ۵۴۷۳، ۵۴۷۴، ۵۴۷۵، ۵۴۷۶، ۵۴۷۷، ۵۴۷۸، ۵۴۷۹، ۵۴۸۰، ۵۴۸۱، ۵۴۸۲، ۵۴۸۳، ۵۴۸۴، ۵۴۸۵، ۵۴۸۶، ۵۴۸۷، ۵۴۸۸، ۵۴۸۹، ۵۴۹۰، ۵۴۹۱، ۵۴۹۲، ۵۴۹۳، ۵۴۹۴، ۵۴۹۵، ۵۴۹۶، ۵۴۹۷، ۵۴۹۸، ۵۴۹۹، ۵۵۰۰، ۵۵۰۱، ۵۵۰۲، ۵۵۰۳، ۵۵۰۴، ۵۵۰۵، ۵۵۰۶، ۵۵۰۷، ۵۵۰۸، ۵۵۰۹، ۵۵۱۰، ۵۵۱۱، ۵۵۱۲، ۵۵۱۳، ۵۵۱۴، ۵۵۱۵، ۵۵۱۶، ۵۵۱۷، ۵۵۱۸، ۵۵۱۹، ۵۵۲۰، ۵۵۲۱، ۵۵۲۲، ۵۵۲۳، ۵۵۲۴، ۵۵۲۵، ۵۵۲۶، ۵۵۲۷، ۵۵۲۸، ۵۵۲۹، ۵۵۳۰، ۵۵۳۱، ۵۵۳۲، ۵۵۳۳، ۵۵۳۴، ۵۵۳۵، ۵۵۳۶، ۵۵۳۷، ۵۵۳۸، ۵۵۳۹، ۵۵۴۰، ۵۵۴۱، ۵۵۴۲، ۵۵۴۳، ۵۵۴۴، ۵۵۴۵، ۵۵۴۶، ۵۵۴۷، ۵۵۴۸، ۵۵۴۹، ۵۵۵۰، ۵۵۵۱، ۵۵۵۲، ۵۵۵۳، ۵۵۵۴، ۵۵۵۵، ۵۵۵۶، ۵۵۵۷، ۵۵۵۸، ۵۵۵۹، ۵۵۶۰، ۵۵۶۱، ۵۵۶۲، ۵۵۶۳، ۵۵۶۴، ۵۵۶۵، ۵۵۶۶، ۵۵۶۷، ۵۵۶۸، ۵۵۶۹، ۵۵۷۰، ۵۵۷۱، ۵۵۷۲، ۵۵۷۳، ۵۵۷۴، ۵۵۷۵، ۵۵۷۶، ۵۵۷۷، ۵۵۷۸، ۵۵۷۹، ۵۵۸۰، ۵۵۸۱، ۵۵۸۲، ۵۵۸۳، ۵۵۸۴، ۵۵۸۵، ۵۵۸۶، ۵۵۸۷، ۵۵۸۸، ۵۵۸۹، ۵۵۹۰، ۵۵۹۱، ۵۵۹۲، ۵۵۹۳، ۵۵۹۴، ۵۵۹۵، ۵۵۹۶، ۵۵۹۷، ۵۵۹۸، ۵۵۹۹، ۵۶۰۰، ۵۶۰۱، ۵۶۰۲، ۵۶۰۳، ۵۶۰۴، ۵۶۰۵، ۵۶۰۶، ۵۶۰۷، ۵۶۰۸، ۵۶۰۹، ۵۶۱۰، ۵۶۱۱، ۵۶۱۲، ۵۶۱۳، ۵۶۱۴، ۵۶۱۵، ۵۶۱۶، ۵۶۱۷، ۵۶۱۸، ۵۶۱۹، ۵۶۲۰، ۵۶۲۱، ۵۶۲۲، ۵۶۲۳، ۵۶۲۴، ۵۶۲۵، ۵۶۲۶، ۵۶۲۷، ۵۶۲۸، ۵۶۲۹، ۵۶۳۰، ۵۶۳۱، ۵۶۳۲، ۵۶۳۳، ۵۶۳۴، ۵۶۳۵، ۵۶۳۶، ۵۶۳۷، ۵۶۳۸، ۵۶۳۹، ۵۶۴۰، ۵۶۴۱، ۵۶۴۲، ۵۶۴۳، ۵۶۴۴، ۵۶۴۵، ۵۶۴۶، ۵۶۴۷، ۵۶۴۸، ۵۶۴۹، ۵۶۵۰، ۵۶۵۱، ۵۶۵۲، ۵۶۵۳، ۵۶۵۴، ۵۶۵۵، ۵۶۵۶، ۵۶۵۷، ۵۶۵۸، ۵۶۵۹، ۵۶۶۰، ۵۶۶۱، ۵۶۶۲، ۵۶۶۳، ۵۶۶۴، ۵۶۶۵، ۵۶۶۶، ۵۶۶۷، ۵۶۶۸، ۵۶۶۹، ۵۶۷۰، ۵۶۷۱، ۵۶۷۲، ۵۶۷۳، ۵۶۷۴، ۵۶۷۵، ۵۶۷۶، ۵۶۷۷، ۵۶۷۸، ۵۶۷۹، ۵۶۸۰، ۵۶۸۱، ۵۶۸۲، ۵۶۸۳، ۵۶۸۴، ۵۶۸۵، ۵۶۸۶، ۵۶۸۷، ۵۶۸۸، ۵۶۸۹، ۵۶۹۰، ۵۶۹۱، ۵۶۹۲، ۵۶۹۳، ۵۶۹۴، ۵۶۹۵، ۵۶۹۶، ۵۶۹۷، ۵۶۹۸، ۵۶۹۹، ۵۷۰۰، ۵۷۰۱، ۵۷۰۲، ۵۷۰۳، ۵۷۰۴، ۵۷۰۵، ۵۷۰۶، ۵۷۰۷، ۵۷۰۸، ۵۷۰۹، ۵۷۱۰، ۵۷۱۱، ۵۷۱۲، ۵۷۱۳، ۵۷۱۴، ۵۷۱۵، ۵۷۱۶، ۵۷۱۷، ۵۷۱۸، ۵۷۱۹، ۵۷۲۰، ۵۷۲۱، ۵۷۲۲، ۵۷۲۳، ۵۷۲۴، ۵۷۲۵، ۵۷۲۶، ۵۷۲۷، ۵۷۲۸، ۵۷۲۹، ۵۷۳۰، ۵۷۳۱، ۵۷۳۲، ۵۷۳۳، ۵۷۳۴، ۵۷۳۵، ۵۷۳۶، ۵۷۳۷، ۵۷۳۸، ۵۷۳۹، ۵۷۴۰، ۵۷۴۱، ۵۷۴۲، ۵۷۴۳، ۵۷۴۴، ۵۷۴۵، ۵۷۴۶، ۵۷۴۷، ۵۷۴۸، ۵۷۴۹، ۵۷۵۰، ۵۷۵۱، ۵۷۵۲، ۵۷۵۳، ۵۷۵۴، ۵۷۵۵، ۵۷۵۶، ۵۷۵۷، ۵۷۵۸، ۵۷۵۹، ۵۷۶۰، ۵۷۶۱، ۵۷۶۲، ۵۷۶۳، ۵۷۶۴، ۵۷۶۵، ۵۷۶۶، ۵۷۶۷، ۵۷۶۸، ۵۷۶۹، ۵۷۷۰، ۵۷۷۱، ۵۷۷۲، ۵۷۷۳، ۵۷۷۴، ۵۷۷۵، ۵۷۷۶، ۵۷۷۷، ۵۷۷۸، ۵۷۷۹، ۵۷۸۰، ۵۷۸۱، ۵۷۸۲، ۵۷۸۳، ۵۷۸۴، ۵۷۸۵، ۵۷۸۶، ۵۷۸۷، ۵۷۸۸، ۵۷۸۹، ۵۷۹۰، ۵۷۹۱، ۵۷۹۲، ۵۷۹۳، ۵۷۹۴، ۵۷۹۵، ۵۷۹۶، ۵۷۹۷، ۵۷۹۸، ۵۷۹۹، ۵۸۰۰، ۵۸۰۱، ۵۸۰۲، ۵۸۰۳، ۵۸۰۴، ۵۸۰۵، ۵۸۰۶، ۵۸۰۷، ۵۸۰۸، ۵۸۰۹، ۵۸۱۰، ۵۸۱۱، ۵۸۱۲، ۵۸۱۳، ۵۸۱۴، ۵۸۱۵، ۵۸۱۶، ۵۸۱۷، ۵۸۱۸، ۵۸۱۹، ۵۸۲۰، ۵۸۲۱، ۵۸۲۲، ۵۸۲۳، ۵۸۲۴، ۵۸۲۵، ۵۸۲۶، ۵۸۲۷، ۵۸۲۸، ۵۸۲۹، ۵۸۳۰، ۵۸۳۱، ۵۸۳۲، ۵۸۳۳، ۵۸۳۴، ۵۸۳۵، ۵۸۳۶، ۵۸۳۷، ۵۸۳۸، ۵۸۳۹، ۵۸۴۰، ۵۸۴۱، ۵۸۴۲، ۵۸۴۳، ۵۸۴۴، ۵۸۴۵، ۵۸۴۶، ۵۸۴۷، ۵۸۴۸، ۵۸۴۹، ۵۸۵۰، ۵۸۵۱، ۵۸۵۲، ۵۸۵۳، ۵۸۵۴، ۵۸۵۵، ۵۸۵۶، ۵۸۵۷، ۵۸۵۸، ۵۸۵۹، ۵۸۶۰، ۵۸۶۱، ۵۸۶۲، ۵۸۶۳، ۵۸۶۴، ۵۸۶۵، ۵۸۶۶، ۵۸۶۷، ۵۸۶۸، ۵۸۶۹، ۵۸۷۰، ۵۸۷۱، ۵۸۷۲، ۵۸۷۳، ۵۸۷۴، ۵۸۷۵، ۵۸۷۶، ۵۸۷۷، ۵۸۷۸، ۵۸۷۹، ۵۸۸۰، ۵۸۸۱، ۵۸۸۲، ۵۸۸۳، ۵۸۸۴، ۵۸۸۵، ۵۸۸۶، ۵۸۸۷، ۵۸۸۸، ۵۸۸۹، ۵۸۹۰، ۵۸۹۱، ۵۸۹۲، ۵۸۹۳، ۵۸۹۴، ۵۸۹۵، ۵۸۹۶، ۵۸۹۷، ۵۸۹۸، ۵۸۹۹، ۵۹۰۰، ۵۹۰۱، ۵۹۰۲، ۵۹۰۳، ۵۹۰۴، ۵۹۰۵، ۵۹۰۶، ۵۹۰۷، ۵۹۰۸، ۵۹۰۹، ۵۹۱۰، ۵۹۱۱، ۵۹۱۲، ۵۹۱۳، ۵۹۱۴، ۵۹۱۵، ۵۹۱۶، ۵۹۱۷، ۵۹۱۸، ۵۹۱۹، ۵۹۲۰، ۵۹۲۱، ۵۹۲۲، ۵۹۲۳، ۵۹۲۴، ۵۹۲۵، ۵۹۲۶، ۵۹۲۷، ۵۹۲۸، ۵۹۲۹، ۵۹۳۰، ۵۹۳۱، ۵۹۳۲، ۵۹۳۳، ۵۹۳۴، ۵۹۳۵، ۵۹۳۶، ۵۹۳۷، ۵۹۳۸، ۵۹۳۹، ۵۹۴۰، ۵۹۴۱، ۵۹۴۲، ۵۹۴۳، ۵۹۴۴، ۵۹۴۵، ۵۹۴۶، ۵۹۴۷، ۵۹۴۸، ۵۹۴۹، ۵۹۵۰، ۵۹۵۱، ۵۹۵۲، ۵۹۵۳، ۵۹۵۴، ۵۹۵۵، ۵۹۵۶، ۵۹۵۷، ۵۹۵۸، ۵۹۵۹، ۵۹۶۰، ۵۹۶۱، ۵۹۶۲، ۵۹۶۳، ۵۹۶۴، ۵۹۶۵، ۵۹۶۶، ۵۹۶۷، ۵۹۶۸، ۵۹۶۹، ۵۹۷۰، ۵۹۷۱، ۵۹۷۲، ۵۹۷۳، ۵۹۷۴، ۵۹۷۵، ۵۹۷۶، ۵۹۷۷، ۵۹۷۸، ۵۹۷۹، ۵۹۸۰، ۵۹۸۱، ۵۹۸۲، ۵۹۸۳، ۵۹۸۴، ۵۹۸۵، ۵۹۸۶، ۵۹۸۷، ۵۹۸۸، ۵۹۸۹، ۵۹۹۰، ۵۹۹۱، ۵۹۹۲، ۵۹۹۳، ۵۹۹۴، ۵۹۹۵، ۵۹۹۶، ۵۹۹۷، ۵۹۹۸، ۵۹۹۹، ۶۰۰۰، ۶۰۰۱، ۶۰۰۲، ۶۰۰۳، ۶۰۰۴، ۶۰۰۵، ۶۰۰۶، ۶۰۰۷، ۶۰۰۸، ۶۰۰۹، ۶۰۱۰، ۶۰۱۱، ۶۰۱۲، ۶۰۱۳، ۶۰۱۴، ۶۰۱۵، ۶۰۱۶، ۶۰۱۷، ۶۰۱۸، ۶۰۱۹، ۶۰۲۰، ۶۰۲۱، ۶۰۲۲، ۶۰۲۳، ۶۰۲۴، ۶۰۲۵، ۶۰۲۶، ۶۰۲۷، ۶۰۲۸، ۶۰۲۹، ۶۰۳۰، ۶۰۳۱، ۶۰۳۲، ۶۰۳۳، ۶۰۳۴، ۶۰۳۵، ۶۰۳۶، ۶۰۳۷، ۶۰۳۸، ۶۰۳۹، ۶۰۴۰، ۶۰۴۱، ۶۰۴۲، ۶۰۴۳، ۶۰۴۴، ۶۰۴۵، ۶۰۴۶، ۶۰۴۷، ۶۰۴۸، ۶۰۴۹، ۶۰۵۰، ۶۰۵۱، ۶۰۵۲، ۶۰۵۳، ۶۰۵۴، ۶۰۵۵، ۶۰۵۶، ۶۰۵۷، ۶۰۵۸، ۶۰۵۹، ۶۰۶۰، ۶۰۶۱، ۶۰۶۲، ۶۰۶۳، ۶۰۶۴، ۶۰۶۵، ۶۰۶۶، ۶۰۶۷، ۶۰۶۸، ۶۰۶۹، ۶۰۷۰، ۶۰۷۱، ۶۰۷۲، ۶۰۷۳، ۶۰۷۴، ۶۰۷۵، ۶۰۷۶، ۶۰۷۷، ۶۰۷۸، ۶۰۷۹، ۶۰۸۰، ۶۰۸۱، ۶۰۸۲، ۶۰۸۳، ۶۰۸۴، ۶۰۸۵، ۶۰۸۶، ۶۰۸۷

اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فجر و مغرب کے بعد پانچ نعتیں حاصل کیجئے!

(۷) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص نماز فجر کے بعد کسی سے بات چیت کرنے سے پہلے دس مرتبہ پڑھے گا تو اس کو ۵۰ نعتیں حاصل ہوں گی۔

(۱) دس نیکیاں ملیں گی (۲) دس گناہ معاف ہوں گے (۳) دس غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا (۴) شیطان سے اس کی حفاظت ہوگی (۵) آفتوں سے محفوظ رہے گا۔

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ

وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

(ترمذی شریف: ۳۴۶۸، ابوداؤد شریف: ۵۰۷۷)

☆ لبوں کو یاد الہی سے تروتازہ رکھئے۔

اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

۲۵ سینٹ کا عمل، ہر کام مکمل!

(۸) کیا ہمارا ایمان ادھورا نہیں؟ کیا ہماری عبادت و نماز، تلاوت و ذکر ادھورا نہیں؟ کیا محبت الہی ناقص نہیں؟ کیا ہمارے گھر بیلو کام ادھورے نہیں رہ جاتے؟ بلکہ کون سے دینی یا دنیاوی کام ہیں جو ادھورے نہ رہتے ہوں، تو پھر اس کا علاج کیا؟ ہم سب کے محسن اعظم نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو مومن صبح و شام سات مرتبہ اس دعا کو پڑھے گا، اللہ پاک اس کے ہر ادھورے کام کو مکمل فرمادیں گے۔

اس کو پڑھنے میں آپ کو صرف ۲۵ سینٹ لگیں گے۔

﴿حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ

الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ (ابوداؤد: ۵۰۸۳، ۵۰۸۱، عمل الیوم واللیلۃ ابن السنی: ۷۱)



اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

۲۵ سینٹ میں ستر ہزار فرشتوں سے دعائے رحمت کرائیے!

(۹) کیا ہم چاہتے ہیں کہ فرشتے ہمارے لئے صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک دعائے رحمت کرتے رہیں اور ہمارا دامن رحمت سے بھرتا رہے؟ تو پھر پورے شوق اور امید کے ساتھ نیچے کی آیت یاد کرنا اور پڑھنا بھولنے۔

حضرت معقل بن یسارؓ نبی کریم ﷺ کی روایت نقل کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فی الحال اسی طرح لکھو جس طرح پڑھا، جب میرا بندہ مجھے ملے گا اس وقت میں ہی اس کی جزا اور ثواب اسکو دوں گا۔ جب صرف دس سینٹ میں اس قدر ثواب ہے تو پڑھنا بھولنے۔

جو شخص صبح کو یہ تین آیتیں پڑھے تو ستر ہزار فرشتے اس کے لئے شام تک دعائے رحمت کریں گے اور اگر شام میں پڑھے تو صبح تک ستر ہزار فرشتے دعائے رحمت کریں گے اور اگر اسی دن انتقال ہو جائے تو

شہادت کا درجہ پائے گا۔

پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تین دفعہ یہ پڑھئے۔

﴿أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾

اس کے بعد ایک دفعہ یہ آیت پڑھئے۔

﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ

وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ. هُوَ اللَّهُ الَّذِي

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ

الْمُهَيَّبُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ

عَمَّا يُشْرِكُونَ. هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ

لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

(ترمذی: ۹۲۴، ۳۱۷۲، داری: ۲۵۸، مسند احمد: ۲۰۳۲۱)

اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

۱۰۔ ارسینڈ کے عمل پر ایک ہزار سال تک ثواب لکھتے رہ جائیں!

(۱۰) حضرت جابر رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کا ارشاد نقل کرتے ہیں: جو شخص صبح و شام یہ درود پڑھا کرے گا:

﴿اللَّهُمَّ رَبِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَاجْزِ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هُوَ أَهْلُهُ﴾ (فضائل درود ص ۳۵)

وہ اس کا ثواب لکھنے والوں کو (فرشتوں کو) ایک ہزار دن تک مشقت میں ڈالے رکھے گا۔ مشقت میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ہزار دن تک اس کا ثواب لکھتے لکھتے تھک جائیں گے۔

☆☆☆
☆ چلتے پھرتے درود کا تحفہ بھیجنے میں نکل نہ کیجئے۔

نماز کے بعد کی دعائیں!

(۱۱) حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نماز سے فارغ ہوتے تو ۳ مرتبہ استغفار پڑھتے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھتے۔

﴿اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾
(مسلم ص ۲۱۸، نسائی۔ ابن ماجہ۔ ترمذی ص ۶۶، بسند صحیح)

نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اے معاذ! میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ کسی نماز کے بعد اس دعا کو نہ چھوڑنا۔

﴿اللَّهُمَّ اَعِنَّا عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ﴾

﴿اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطَى لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ﴾

فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا نہ بھولیے!

(۱۲) نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اس کو جنت میں جانے سے صرف موت روکے گی، یعنی اس کی برکت سے مرتے ہی جنت میں چلا جائے گا۔
نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا وہ دوسری نماز کے آنے تک خدا کی حفاظت میں رہے گا۔ لہذا صرف دس سیکنڈ میں ضرور پڑھا کریں۔

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾
(کتاب الدعاء: ۲۱۳، عمل الیوم واللیلیۃ للنسائی: ص ۱۸۲، حدیث: ۱۰۰)

پوری رات سو کر بھی ثواب حاصل کیجئے!

(۱۳) (۱) جو شخص قرآن کریم ﷺ میں سے کہیں سے بھی دس آیتیں سونے سے پہلے پڑھ لے گا وہ پوری رات، یاد خدا سے غافل نہ لکھا جائے گا۔ (ابن اسنی ص ۷۰۲، الدعاء المسنون ص ۲۵۳)

(۲) سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں جو شخص عشاء کی نماز کے بعد پڑھے گا تو اس کے لئے وہ تہجد کے قائم مقام (برابر) ہو جائے گی۔
حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ میں کسی عقلمند کے متعلق یہ گمان نہیں کرتا کہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں (آمن الرسول سے آخر تک) کو پڑھے بغیر سو جائے۔ (اذکار ص ۸۰، الدعاء المسنون: ۲۵۵)

(۳) رات میں تہجد پڑھنے کی کوشش ضرور کیجئے، لیکن اگر نہ پڑھ پاتے ہوں تو عشاء کے بعد چار رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لیجئے رحمت الہی سے امید ہے کہ تہجد کا ثواب عطا فرمادے۔ (سنن سعید بن منصور)
(۴) تسبیح فاطمی پڑھ کر سویا کریں۔

اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

صرف ایک منٹ میں ۴ کروڑ نیکی!

(۱۴) حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ان چار کلمات کو دس مرتبہ کہے تو اس کے لئے چار کروڑ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔

﴿أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ إِلَهًا
وَاحِدًا أَحَدًا صَمَدًا لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَلَمْ
يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾

(ترمذی: ۳۴۷۳، مسند احمد: ۱۶۹۹۳، طبرانی: ۱۲۷۸، کنز العمال: ۳۸۹۸)



☆ دربار الہی میں محبت الہی کی بھیک مانگا کیجئے۔

اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

صرف ارنٹ میں تمام مومنوں کے برابر نیکی!

(۱۵) صحابی رسول حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مومن مرد اور مومن عورت کیلئے استغفار (دعاء مغفرت) کرے گا اللہ پاک ہر مومن مرد و عورت کے برابر اسے نیکی اور ثواب عطا فرمائے گا۔

حضرت ابو درداد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص مومنوں کیلئے ۲۵ مرتبہ یا ۲۷ مرتبہ استغفار کرے گا وہ مستجاب الدعوات لوگوں میں شامل ہوگا، جن کی وجہ سے اہل زمین کو رزق دیا جاتا ہے۔

﴿اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ
وَالْمُسْلِمَاتِ﴾ (مجمع الزوائد ص ۲۱۰، جامع صغیر ص ۵۱۳، حصن حصین ص ۴۳۲)

☆ ہر ایک کیلئے دھڑکتے دل میں ہمدردی کا جذبہ رکھئے۔

اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

افضل ذکر نہ چھوڑئے!

(۱۶) حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے دعا کی کہ کوئی ایسا ذکر بتلا دیجئے جو میرے لئے خالص ہو، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھا کریں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو ہر مومن بندہ پڑھتا ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ وہ کلمہ ہے کہ اگر ساتوں زمین و آسمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں ڈال دیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو تو یہ پلڑا جھک جائے گا۔ (مجمع الزوائد: ۱۶۸۰۴)

حدیث نبوی ہے عرش کے سامنے نور کا ایک ستون ہے، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، تو وہ ستون ہلنے لگتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں: ٹھہر جا، تو وہ ستون کہتا ہے کہ میں کیسے ٹھہروں جبکہ آپ نے اس کے کہنے والے کو بھی معاف نہیں فرمایا، تو خدائے غفار فرماتے ہیں کہ میں نے معاف کر دیا، اس کے بعد وہ ٹھہر جاتا ہے۔ (مجمع الزوائد: ۱۶۸۰۴)

اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

چلتے پھرتے ایک منٹ میں ۴ قرآن کا ثواب!

(۱۷) ترقی کے اس دور میں ہر شخص کم وقت میں زیادہ نفع کمانا چاہتا ہے اور تھوڑے وقت میں زیادہ کام نمٹانا چاہتا ہے، ہم کیوں پیچھے رہیں۔ قربان جائیے اللہ پاک کے رحم و کرم پر کہ اس نے ہم کو سنہرا موقع دیا، کہ ایک دفعہ سورہ اخلاص ("قل هو اللہ" کی سورہ) کے پڑھنے کو تہائی قرآن کے برابر کر دیا۔ لہذا تین بار تلاوت پر ایک قرآن ختم کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ آپ آسانی سے چلتے پھرتے اور بارہ دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کر گھریلو کام کرتے ہوئے ایک منٹ میں چار قرآن ختم کرنے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ (مسلم: ۱۹۲۳، ترمذی: ۳۱۳۹،

مسند البزار: ۷۵۸۱)

☆ ۴۰ سیکنڈ میں سورہ کافرون ۴ مرتبہ پڑھ کر ایک قرآن کا ثواب حاصل کیجئے

اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ایک منٹ میں ۳۲۰ نیکی!

(۱۸) نیکیوں سے دامن بھرنے کا شوق ہو تو آج سے ہی شروع کر دیجئے، آپ آسانی کے ساتھ ایک منٹ میں ۶ مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں۔

سورہ فاتحہ میں ۱۲۲ حروف ہیں، ایک دفعہ پڑھنے پر ۱۲۲ نیکی، تو چھ دفعہ پڑھنے پر ۷۳۲ نیکی مل جائے گی۔ لہذا گھر بیٹو کام کرتے ہوئے بھی ایک منٹ میں پڑھ کر اپنے دامن کو ثواب سے بھر لیجئے۔

(ترمذی، دارمی، مشکوٰۃ)



☆ سورہ لحم سجدہ اور سورہ ملک سونے سے پہلے پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔
☆ پھر دونوں جہان میں اس کی برکت دیکھئے۔

اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

صرف ۱۰ سیکنڈ میں کیسا عمل کہ فرشتے ثواب لکھ نہ سکیں

(۱۹) حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ایک نیک بندے نے یہ دعا پڑھی تو اس کا ثواب لکھنا فرشتوں پر دشوار ہو گیا کہ کیسے لکھیں؟ تو اللہ تعالیٰ یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس بندے نے یہ دعا پڑھی ہے، فرشتوں سے سوال کرتے ہیں کہ کیا پڑھا ہے میرے اس بندے نے؟ تو فرشتوں نے سنایا کہ یہ پڑھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح لکھ دو، جب مجھ سے ملے گا تو میں ہی اس کا اجر دوں گا۔

﴿يَا رَبِّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَالِ وَجْهِكَ

وَعَظِيمِ سُلْطَانِكَ﴾

(ابن ماجہ ۳۸۰، المعجم ۱۳۱۸، الدعاء للطبرانی ۱۷۰۸)

اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ہر مشکل اور غم کو دور کرنے کا نبوی نسخہ!

(۲۰) نبی کریم ﷺ یہ دعا پڑھا کرتے تھے:

﴿اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا وَأَنْتَ تَجْعَلُ

الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا﴾ (ابن حبان - ابن سنی)

حضرت مکحولؓ تابعی فرماتے ہیں: جو شخص اس کو پڑھے گا اللہ پاک مصیبت کے ستر دروازے بند کر دے گا، ان میں ادنیٰ فقر و فاقہ کا دور ہونا ہے۔

﴿لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا

إِلَيْكَ﴾ (ابو نعیم: ج ۱۵۶، ابن ابی شیبہ: ج ۳۲۹، ج ۱۰)

اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

مصیبت سے نجات کا نسخہ!

(۲۱) جس کو دیکھتے رنجیدہ، غمزدہ اور مصیبت و پریشانی میں مبتلا ہے۔ ہم پر کوئی غم و مصیبت نہ آئے، یا ہے تو دور ہو جائے اس کیلئے صرف ۶ سیکنڈ میں تین بار اس کو ضرور پڑھ لیا کریں۔
مگر ہاں یقین اور سچے دل کے ساتھ پڑھیے۔

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾

(کنز العمال: ۳۲۲۸، الدیلمی: ۵۳۲۵، ترمذی: ۳۵۰۵)

☆ گھر سے نکلنے ہوئے یہ ضرور پڑھئے اور آفت و مصیبت سے

محفوظ رہئے۔

بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

درو پڑھنا نہ بھولے!

(۵) حضرت علیؑ فرماتے ہیں: جو شخص سو دفعہ درود شریف (کوئی بھی) جمعہ کے دن پڑھے گا تو قیامت کے دن اس قدر نور لے کر آئے گا کہ اس کا نور تمام مخلوق پر تقسیم کر دیا جائے تو کافی ہو جائے گا۔
☆ حضرت ابو درداؓ فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص صبح و شام دس دس مرتبہ مجھ پر درود شریف پڑھے گا اس کو قیامت کے دن میری شفاعت حاصل ہوگی۔ (مجمع الزوائد: ۱۷۰۲۲، القول البدیع: ص ۱۸۸/۱۱، ۶)

☆ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر ۸۰ مرتبہ درود شریف پڑھے گا، اس کے ۸۰ سال کے گناہ معاف کئے جائیں گے۔ کسی نے عرض کیا: کس طرح پڑھیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ:

﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ
وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ﴾ (القول البدیع: ص ۱۸۷)

☆ مرنے سے پہلے جنت میں اپنا ٹھکانا دیکھنا ہو تو ہر جمعہ کو ایک ہزار مرتبہ یہ درود ضرور پڑھا کریں۔

﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدِ بْنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ﴾ (القول البدیع: ص ۱۸۷)

سورہ کہف کی تلاوت کریں!

(۶) نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص جمعہ کے دن اس سورہ کو پڑھے گا تو اس جمعہ سے اگلے جمعہ تک اس کے لئے نور اور روشنی کا ذریعہ ہوگا، اور جو شروع کی صرف دس آیتیں پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اور آخر کی دس آیتیں کے پڑھنے سے بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔

غم کو دور کیجئے!

رنج و غم، مصیبت و پریشانی اور کسی کے ظلم و زیادتی سے بچنے کیلئے پڑھا کیجئے۔

﴿حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ﴾
(عمل ایوم واللیلیۃ: ص ۱۹۵، ۲۳۱)

اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

درو توحینا (۲۳)

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُنَجِّنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَهْوَالِ وَالْآفَاتِ وَتَقْضِي لَنَا بِهَا جَمِيعَ الْحَاجَاتِ وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ السَّيِّئَاتِ وَتَرْفَعُنَا بِهَا عِنْدَكَ أَعْلَى الدَّرَجَاتِ وَتُبَلِّغُنَا بِهَا أَقْصَى الْعَالَمَاتِ مِنْ جَمِيعِ الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ إِنَّكَ عَلَيَّ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی قدس سرہ آفتوں سے اور ہر قسم کی مصیبتوں سے بچنے کیلئے عشاء کے بعد ستر مرتبہ پڑھنے کا مشورہ دیا کرتے تھے۔ اس کے پڑھنے سے بہت سے فائدے ظاہر ہوتے ہیں۔

اے دل توبہی بتا!

تنہائی میں اپنے آپ سے پوچھئے: کیا ہم موت کے لئے تیار ہیں؟ خلوت میں سوچئے: کیا عذاب قبر سے بچنے کی کوشش کر چکے ہیں؟ اور رات کے سنائے میں غور کیجئے: کیا محشر کی ذلت سے بچنے کی عملی تدبیر کر چکے ہیں؟

دل کا جواب کہیں حسرت بھرا تو نہیں، کہ تم نے تیاری کیا کی؟ نمازیں چھوڑیں، زکوٰۃ خود کھا گئے، کمزوروں کے دل چھلنی کر چکے گالی گلوں میں کسی سے کم نہیں، پھر بھی تمہارا نفس ہے جو اترا رہا ہے کہ ہم سے پکا کوئی مسلمان نہیں۔ تو پھر دیر نہ کیجئے، توبہ اور معافی تملانی کر لیجئے اور عہد کیجئے کہ نہ تو نماز روزہ چھوڑیں گے اور نہ اس زبان سے غیبت کریں گے اور نہ گالی گلوں، جس زبان سے تہمت و ذکر کرتے ہیں، ورنہ حسرت کے سوا کچھ نہیں۔

اللَّهُمَّ وَفَّقْنَا لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى